

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے معیشت کو تحریک دینے اور کمیونٹی کی ترقی کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبے کی منظور دے دی

برامپٹن، آن (9 اپریل 2021) – اس ہفتے اپنی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے ملازمت میں بڑھوتری کو تحریک دینے، مخصوص شعبہ جات میں عمارتوں کی نئی توسیع میں معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن کی مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک [کمیونٹی امپروومنٹ پلان](#) (CIP) کی منظوری دے دی۔

موجودہ عالمی وباء کے آغاز سے، سٹی کاروباری کمیونٹی کی بحالی اور لچک میں معاونت کے لیے وقف رہا ہے۔

گزشتہ سال، برامپٹن سٹی کونسل نے سٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر [ایکانامک ریکوری اسٹریٹیجی](#) کی منظوری دی تھی۔ یہ حکمت عملی چار ستونوں میں منظم ہے: جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرائیوٹرشپ، جس میں انٹرپرائیوٹرز اور چھوٹے کاروباروں کی بہتر معاونت شامل ہے؛ سرمایہ کاری؛ فنون، ثقافت اور سیاحت؛ اور انفراسٹرکچر۔

سٹی سرمایہ کاری لانا جاری ہے اور برامپٹن کو 2021 کی پہلے سہ ماہی میں موصول ہونے والی منصوبہ بندی کی درخواستیں 2020 اور 2019 کے پہلے تین ماہ کی نسبت تقریباً دو گنا ہیں۔

اسی رفتار کو آگے بڑھتے ہوئے، CIP کا قیام مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے اور برامپٹن کے مسابقتی فائدے کو بڑھانے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ صوبہ اونٹاریو کا پلاننگ ایکٹ مقامی میونسپلٹیوں کو ایک جگہ کو کمیونٹی امپروومنٹ پراجیکٹ ایریا کے طور پر متعین کر کے نوکریاں اور ایک بڑھتے ہوئے شہر کے لیے ضروری سہولیات پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کو معاشی اور غیر معاشی مراعات کی پیشکش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

CIP کے تحت پیشکش کیے جانے والے ممکنہ ٹولز میں سے، ابتدائی محرکات میں سے ایک ٹیکس انکریمنٹ ایکویولنٹ گرانٹ (TIEG) ہو گی، جس کا مقصد دفاتر کو استعمال میں لانے جانے کے لیے کشش پیدا کرنا ہے، بشمول توصیفی استعمال، مثلاً تحقیق اور لیب کے لیے جگہ۔ TIEG ایک گرانٹ یا چھوٹ ہے، تاکہ کاروباری مالکان کو پیش آنے والے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے ایک حصے کو کم کیا جا سکے۔

اس کے علاوہ، دفاتر کے استعمال کے لیے پورے شہر میں ایک TIEG کے نفاذ کے ذریعے، سٹی آف برامپٹن ریجن کے میجر آفس پروگرام کے ذریعے پیشکش کیے جانے والی TIEG تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کا آغاز 2021 میں متوقع ہے۔ دفاتر کی معیاری جگہ کے پراجیکٹس میں سرمایہ کاری بڑھانا "مکمل کمیونٹیوں" کے ایک ماحول کو بھی فروغ دیتی ہے، جہاں رہائشی رہ سکتے، کام کر سکتے اور سیکھ سکتے ہوں۔

سٹی کے عملے کو 2021 کی سہ ماہی 2 اور سہ ماہی 3 کے دوران CIP کو تیار کرنے اور حتمی شکل دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سٹی اس سال ایک قانونی عوامی میٹنگ کا انعقاد کرے گا اور حتمی CIP اونٹاریو منسٹری آف میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ کو نظر ثانی اور تبصرے کے لیے بھیجا جائے گا۔ CIP کا آغاز سہ ماہی 4 سے متوقع ہے۔

CIP ایک مخصوص عرصے کے لیے پیشکش کیا جائے گا اور اس کی باقاعدگی سے نظر ثانی کی جائے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سٹی آف برامپٹن کی ملازمت کی ضروریات کے اہداف اور مقاصد پورے ہو رہے ہوں۔ CIP کونسل کے اس دور کی ترجیح، "مواقع کا شہر بننا" سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔

CIP کا مقصد اپنے کلیدی شعبہ جات میں اضافی ملازمت کا حصول ہے: جدت اور ٹیکنالوجی؛ انٹرپرائیوٹرشپ؛ صحت اور زندگی کی سائنس؛ اور ایڈوانسڈ مینوچرنگ۔ برامپٹن میں مارکیٹ کے موجودہ حالات ان میں سے ہر ایک شعبے میں نئی تعمیر میں مسلسل سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہیں۔

"ایک کمیونٹی امپروومنٹ پلان ہماری مقامی معاشی بحالی میں نجی سرمایہ کاری کے کردار کی حوصلہ افزائی کی سٹی آف برامپٹن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کئی طریقے پیش کرتا ہے۔ برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور CIP کا قیام ہمارے اہداف کے حصول کا ایک اور اہم حصہ ہے، جبکہ ہم اس عالمی وباء سے گزرتے ہوئے اپنی معاشی بحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کے تحت، کونسل نے مقامی کاروباروں کی معاونت کے لیے کلیدی سرمایہ کاریوں میں سے ایک کے طور پر CIP کی شناخت کی۔ یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ برامپٹن کے کاروباروں کی کامیابی کے ساتھ ہم سب کی جیت ہے۔"

- مارٹن میٹیروس، وارڈز 3 اور 4؛ ریجنل کونسلر اور چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، چیئر اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"یہ کمیونٹی امپروومنٹ پلان مقامی علاقوں کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا اور ساتھ ہی ساتھ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو تحریک دے گا اور ہماری اپنی سرگرمیوں اور کلیدی شراکت داریوں کے ذریعے کمیونٹی میں نئی جان ڈالے گا۔"

• ہیٹ فورٹینی، وارڈز 7 اور 8، ریجنل کونسلر اور وائس چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا 2040 ویژن سٹی کی ایسی افرادی قوت کو بڑھانے کی ضرورت کی شناخت کرتا ہے، جو کمیونٹی میں رہتے اور کام کرتے ہوں۔ کمیونٹی امپروومنٹ پلان ہماری کمیونٹی میں دفاتر کے لیے زیادہ سرمایہ کاری لا کر برامپٹن کو زیادہ گنجان ملازمت کے اعلیٰ تناسب پر منتقل ہونے میں مدد دے گا۔"

- پال ویسیٹی، وارڈز 1 اور 5، ریجنل کونسلر اور وائس چیئر، چیئر اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"مکمل ہو جانے پر، کمیونٹی امپروومنٹ پلان میں ممکنہ غیر معاشی اور معاشی پروگراموں کا ایک 'ٹول باکس' شامل ہو گا، تاکہ سٹی آف برامپٹن کے لیے دہریا فوائد کو تحریک دی جا سکے، بشمول نوکریوں کی پیداوار، ٹیکس سے آمدنی اور رہائشیوں کے لیے معیار زندگی میں مجموعی بہتری۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca